

## FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	تیرے کی لائن کندھے کی دونوں ہڈیوں کا نام ہوتا ہے	A. انچ 4 B. انچ 7 C. انچ 8 D. انچ 9
2	حیوانی پروٹین سے کیا مراد ہے	A. انڈے B. دالیں C. پھل D. سبزیوں
3	پاکستان میں قوت اور حرارت کا کتنا فیصد حصہ کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہے	A. 20 فیصد سے B. 60 فیصد سے C. 80 فیصد سے D. 60 فیصد سے 30
4	خوراک کے بغیر انسان کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے	A. دو دن B. چھ دن C. آٹھ دن D. دس دن
5	ہمارے خون میں سب سے زیادہ ہوتا ہے	A. لوہا B. فلسفورس C. وٹامن D. پوٹاشیم
6	وٹامن کتنے اجزا پر مشتمل ہوتے ہیں	A. ایک B. دو C. تین D. چار
7	گڑ یا میٹر رائڈ کس کا بنا ہوتا ہے	A. لکڑی یا پلاسٹک کا B. شیشے کا C. لوہے کا D. ستیل کا
8	کاربوہائیڈریٹ کو نشاستہ کہا جاتا ہے	A. اردو زبان میں B. فارسی زبان میں C. انگریزی زبان میں D. پنجابی زبان میں
9	غذاؤں کے ٹھوس یا سیال ہونے کا انحصار ان میں موجود کے مطابق پائٹروجن کے تناسب سے ہے	A. گندھک B. سلفر C. کاربن اور آکسیجن D. نائٹروجن
10	خوراک کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز قدرتی طور پر خود ہی اثر انداز ہوتی ہے	A. پانی B. موسم C. ماحول D. آب و ہوا
11	دیگچی کو ڈھکن سے ڈھانپنا ضروری ہے اس سے کتنے فیصد تک حیاتیات (ج) کی مقدار ضائع ہونے سے بچائی جاسکتی ہے	A. 10% سے 5% B. 20% سے 10% C. 40% سے 20% D. 30% سے 105%
12	ہماری دانتوں اور ہڈیوں کی نشوونما اور شکست وریخت کے لیے بہت ضروری ہے	A. کیشیم B. سلفر C. نمکیات D. ایونٹین
13	روغنیات خوراک کو کیسے بناتی ہے	A. متوازن B. بد زائقہ C. خوش زائقہ D. غیر متوازن
14	کندھے کو نپا جاتا ہے	A. تیرہ کی لائن B. بارہ کی لائن C. گیارہ کی لائن D. چودہ کی لائن
15	کیشیم کا سب سے اہم ذریعہ ہے	A. پھل B. گوشت C. سبزی D. دودھ

16	غذائی اجزاء کی کمی کتنے فیصد سے کتنے فیصد تک ہوتی ہے	A. 65% 80 سے B. 45% 60 سے C. 55% 70 سے D. 95% 70 سے
17	ایک تا تین سال کی عمر میں حراروں کی تعداد ہوتی ہے	A. 200 B. 400 C. 300 D. 100
18	فہرست طعام کس کے مطابق ہونی چاہیے	A. وقت کے مطابق B. ہمت کے مطابق C. آہنی کے مطابق D. بچت کے مطابق
19	وارڈروب کس زبان کا لفظ ہے	A. انگریزی B. عربی C. پنجابی D. فرانسیسی
20	حیاتی (ج) کی یومیہ ضرورت اوسط آدمی کی روزانہ کتنی درکار ہوتی ہے	A. 40 ملی گرام 20 سے B. 75 ملی گرام 70 سے C. 60 ملی گرام 40 سے D. 80 ملی گرام 50 سے